

کامیابی۔ (۵۷)

ہم نے اس (قرآن) کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ (۵۸)
اب تو منتظر رہ یہ بھی منتظر ہیں۔ (۵۹)^(۱)

سورہ جاثیہ کی ہے اور اس میں سیس آیتیں اور چار رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

حم۔ (۱) یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ (۲)

آسمانوں اور زمین میں ایمان داروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ (۳)

اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں کی پیدائش میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ (۴)

اور رات دن کے بدلنے میں اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرما کر زمین کو اسکی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے،^(۲) (اس میں) اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں۔^(۳) (۵)

فَأَمَّا يُسْتَرَفُّهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ۝

فَأَرْقُبْ إِنَّهُمْ مُرْتَدِّوْنَ ۝



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

حَمْدٌ ۝ تَنْزِيلٌ مِنَ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ الْحَكِیْمِ ۝

إِنَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَآیٰتٌ لِّلَّذٰلِمِیْنَ ۝

وَفِيْ حَلٰكَتِكُمْ وَمَا بَدِئْتُمْ مِنْ ذٰلِكَ الْبَیْتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ۝

وَاجْتِبٰلَافِ الْاَنْبِیِّ وَالنَّهَارِ وَمَا نَزَّلْنَا مِنَ السَّمٰوٰتِ مِنْ

رِزْقٍ فَلَاحِقَ بِهٖ الْاَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَنَصْرَفِ الرَّیْلِ اِلَیْ

لِقَوْمٍ یَّمْقَلُوْنَ ۝

(۱) تو عذاب الہی کا انتظار کر، اگر یہ ایمان نہ لائے۔ یہ منتظر ہیں اس بات کے کہ اسلام کے غلبہ و نفوذ سے قبل ہی شاید آپ موت سے ہمکنار ہو جائیں۔

(۲) آسمان و زمین، انسانی تخلیق، جانوروں کی پیدائش، رات دن کے آنے جانے اور آسمانی بارش کے ذریعے سے مردہ زمین میں زندگی کی لہر کا دوڑ جانا وغیرہ، آفاق و انفس میں بے شمار نشانیاں ہیں جو اللہ کی وحدانیت و ربوبیت پر دال ہیں۔

(۳) یعنی کبھی ہوا کا رخ شمال و جنوب کو، کبھی پورب پچھتم (مشرق و مغرب) کو ہوتا ہے، کبھی بحری ہوائیں اور کبھی بری ہوائیں، کبھی رات کو، کبھی دن کو، بعض ہوائیں بارش خیز، بعض نتیجہ خیز، بعض ہوائیں روح کی غذا اور بعض سب کچھ

یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو راستی سے سنا رہے ہیں، پس اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے۔^(۱) (۶)

”ویل“ اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گنہگار پر۔^(۲) (۷)

جو آیتیں اللہ کی اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنے پھر بھی غرور کرتا ہو اس طرح اڑا رہے کہ گویا سنی ہی نہیں،^(۳) تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر (پہنچا) دیجئے۔ (۸)

وہ جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے،^(۴) یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے۔ (۹)

ان کے پیچھے دوزخ ہے،^(۵) جو کچھ انہوں نے حاصل کیا

بَلَاكِ الْبَيْتِ الْمَسْكُومِ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ يَا أَيُّهَا الْحَدِيثُ بَعْدَ
اللَّهِ وَالْبَيْتِ يُؤْمِنُونَ ۝

وَيَلْ نَكَلُ أَقَابِلِ آيَتِهِ ۝

يَتَمَعَّرُ لَيْتَ اللَّهُ نَظَلَ عَلَيْهِ فَمُحِبُّهُ وَتَوَلَّيْنَا كَانُ كَوْمِهَا قَدِيرًا
بِعْدَاكَ الْبَيْتِ ۝

وَإِذَا عَلِمْنَا مِنْ تَيْبَتِنَا أُنْيَا إِلَىٰ غَدَا مَا هُمْ زُوًّا أُولَٰئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ مُّجْتَمِعٌ ۝

مِنْ قَوْلِهِمْ جَهَنَّمَ وَلَا يُعْنَىٰ عَنْهُمْ تَاكَبُوا شَيْئًا وَلَا هُمَا الْغَدَا

جھلسا دینے والی اور محض گردوغبار کا طوفان۔ ہواؤں کی اتنی قسمیں بھی دلالت کرتی ہیں کہ اس کائنات کا کوئی چلانے والا ہے اور وہ ایک ہی ہے۔ دویا دو سے زائد نہیں۔ تمام اختیارات کا مالک وہی ایک ہے، ان میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ سارا اور ہر قسم کا تصرف وہی کرتا ہے، کسی اور کے پاس ادنیٰ سا تصرف کرنے کا بھی اختیار نہیں۔ اسی مفہوم کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۶۳ بھی ہے۔

(۱) یعنی اللہ کا نازل کردہ قرآن، جس میں اس کی توحید کے دلائل و براہین ہیں۔ اگر یہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی بات کے بعد کس کی بات ہے اور اس کی نشانیوں کے بعد کون سی نشانیاں ہیں، جن پر یہ ایمان لائیں گے؟ بَعْدَ اللَّهِ کا مطلب ہے، بَعْدَ حَدِيثِ اللَّهِ وَيَعْدُ آيَاتِهِ یہاں قرآن پر حدیث کا اطلاق کیا گیا ہے۔ جیسے ﴿اللَّهُ تَوَكَّلْ حَسْبَ الْعَدِيثِ﴾ (الزمر، ۲۳) میں ہے۔

(۲) أَفَّا لِكَ بِمَعْنَى كَذَابٍ، اُنْيَمٍ، بہت گناہ گار۔ وَيَلْ نَكَلُ، بمعنی ہلاکت یا جہنم کی ایک وادی کا نام۔

(۳) یعنی کفر پر اڑا رہتا ہے اور حق کے مقابلے میں اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اور اسی غرور میں سنی ان سنی کر دیتا ہے۔

(۴) یعنی اول تو وہ قرآن کو غور سے سنتا ہی نہیں ہے اور اگر کوئی بات اس کے کان میں پڑ جاتی ہے یا کوئی بات اس کے علم میں آ جاتی ہے تو اسے استہرا اور مذاق کا موضوع بنا لیتا ہے۔ اپنی کم عقلی اور نافرمانی کی وجہ سے یا کفر و معصیت پر اصرار و استکبار کی وجہ سے۔

(۵) یعنی ایسے کردار کے لوگوں کے لیے قیامت میں جہنم ہے۔

مِنْ دُونِ اللَّهِ أَطِيعُوا وَكُفِّرُوا بَعْدَ ذَلِكَ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۰﴾

هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۱۱﴾

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ حَبْرًا يَلْقَاكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَمَّا كُنْتُمْ مِنَ الْبِحَارِ لِيَتَنَبَّأَ بِمَنْ فِي قُلُوبِهِمْ مَكْرَهاً وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۲﴾

وَسَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَتَّعِينَ

تھا وہ انہیں کچھ بھی نفع نہ (۱) دے گا اور نہ وہ (کچھ کام آئیں گے) جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز (۲) بنا رکھا تھا، ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ (۱۰)

یہ (سرتاپا) ہدایت (۳) ہے اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے بہت سخت دردناک عذاب ہے۔ (۱۱)

اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا (۴) کو تابع بنا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں (۵) چلیں اور تم اس کا فضل (۶) تلاش کرو اور تاکہ تم شکر بجالاؤ۔ (۱۲)

اور آسمان و زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف

(۱) یعنی دنیا میں جو مال انہوں نے کمایا ہو گا، جن اولاد اور جتنے پر وہ فخر کرتے رہے ہوں گے، وہ قیامت والے دن انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔

(۲) جن کو دنیا میں اپنا دوست، مددگار اور معبود بنا رکھا تھا، وہ اس روز ان کو نظر ہی نہیں آئیں گے، مدد تو انہوں نے کیا کرنی ہو گی؟

(۳) یعنی قرآن۔ کیوں کہ اس کے نزول کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لایا جائے۔ اس لیے اس کے سرتاپا ہدایت ہونے میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن ہدایت ملے گی تو اسے ہی جو اس کے لیے اپنا سینہ واکرے گا۔ بصورت دیگر، تو ع راہ دکھلائیں گے رہو منزل ہی نہیں۔ والا معاملہ ہو گا۔

(۴) اَلْبَحْرُ، عَذَابٌ کی صفت ہے، بعض اسے رنج کی صفت بناتے ہیں۔ رَجَزٌ بمعنی عَذَابٌ شَدِيدٌ

(۵) یعنی اس کو ایسا بنا دیا کہ تم کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے سے اس پر سفر کر سکو۔

(۶) یعنی سمندروں میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا، یہ تمہارا کمال اور بہتر نہیں یہ اللہ کا حکم اور اس کی مشیت ہے۔ ورنہ اگر وہ چاہتا تو سمندروں کی موجوں کو اتنا سرکش بنا دیتا کہ کوئی کشتی اور جہاز ان کے سامنے ٹھہر ہی نہ سکتا۔ جیسا کہ کبھی کبھی وہ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے ایسا کرتا ہے۔ اگر مستقل طور پر موجوں کی طغیانیوں کا یہی عالم رہتا تو تم کبھی بھی سمندر میں سفر کرنے کے قابل نہ ہوتے۔

(۷) یعنی تجارت کے ذریعے سے، اور اس میں غوطہ زنی کر کے موتی اور دیگر ایشیا نکال کر اور دریائی جانوروں (مچھلی وغیرہ) کا شکار کر کے۔

(۸) یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر کرو جو اس تخیر و بحر کی وجہ سے تمہیں حاصل ہوتی ہیں۔

فِي ذَلِكَ لَأَيِّتٍ لِّعَوْمٍ يُنْفَكُونَ ﴿١١﴾

سے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے۔^(۱) جو غور کریں یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پائیں گے۔ (۱۳)

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ اللَّهُ ذُنُوبَهُمْ وَلَا يَجْزِيهِمْ عَمَلُهُمْ شَيْئًا سِوَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾

آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے۔ (۱۳)

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٣﴾

جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی بھلے کے لیے اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے،^(۳) پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ (۱۵)

وَلَقَدْ آتَيْنَا نوحَ إِسْرَائِيلَ إِذْ سَأَلَهُ رَبُّكَ أَنَّ يَتُوبَ إِلَيْهِمْ فَكَرِهْتَ لَهُمْ أَن تَتُوبَ إِلَيْهِمْ فَذَرْنَاهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَوْمَ يُنْفَكُ الْعَامِلُونَ ﴿١٤﴾

یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت^(۴) اور نبوت دی تھی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ (اور نفیس) روزیاں دی تھیں^(۵)

(۱) مطیع کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو تمہاری خدمت پر مامور کر دیا ہے، تمہارے مصالح و منافع اور تمہاری معاش سب انہی سے وابستہ ہے، جیسے چاند، سورج، روشن ستارے، بارش، پادل اور ہوائیں وغیرہ ہیں۔ اور اپنی طرف سے کا مطلب، اپنی رحمت اور فضل خاص سے۔

(۲) یعنی جو اس بات کا خوف نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کی مدد کرنے اور دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ مراد کافر ہیں۔ اور ایام اللہ سے مراد قاتلے ہیں۔ جیسے ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيُّهَا اللَّهُ﴾ (ابراہیم: ۵) میں ہے۔ مطلب ہے کہ ان کافروں سے غمخوردگزر سے کام لو، جو اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے بے خوف ہیں۔ یہ ابتدائی حکم تھا جو مسلمانوں کو پہلے دیا جاتا رہا تھا بعد میں جب مسلمان مقابلے کے قابل ہو گئے تو پھر سختی کا اور ان سے ٹکرا جانے (جہاد) کا حکم دے دیا گیا۔

(۳) یعنی جب تم ان کی ایذاؤں پر صبر اور ان کی زیادتیوں سے درگزر کرو گے، تو یہ سارے گناہ ان کے ذمے ہی رہیں گے، جن کی سزا ہم قیامت والے دن ان کو دیں گے۔

(۴) یعنی ہر گروہ اور فرد کا عمل، اچھایا برا، اس کا فائدہ یا نقصان خود کرنے والے کو ہی پہنچے گا، کسی دوسرے کو نہیں۔ اس میں نیکی کی ترغیب بھی ہے، اور بدی سے ترہیب بھی۔

(۵) پس وہ ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق جزا دے گا۔ نیکیوں کو نیک اور بروں کو بری۔

(۶) کتاب سے مراد تورات، حکم سے حکومت و بادشاہت یا فہم و قضا کی وہ صلاحیت ہے جو فصل خصوصیات اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے ضروری ہے۔

(۷) وہ روزیاں جو ان کے لیے حلال تھیں اور ان ہی میں من و سلوئی کا نزول بھی تھا۔

اور انہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی۔^(۱) (۱۶)
 اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دیں،^(۲) پھر
 انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد
 بحث سے ہی اختلاف برپا کر ڈالا،^(۳) یہ جن جن چیزوں میں
 اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے
 درمیان (خود) تیرا پ کرے گا۔^(۴) (۱۷)

پھر ہم نے آپ کو دین کی (ظاہر) راہ پر قائم کر دیا،^(۵) سو
 آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی
 پیروی میں نہ پڑیں۔^(۶) (۱۸)

(یاد رکھیں) کہ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ
 کام نہیں آسکتے۔ (سمجھ لیں کہ) ظالم لوگ آپس میں ایک
 دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں اور پرہیز گاروں کا کارساز
 اللہ تعالیٰ ہے۔ (۱۹)

یہ (قرآن) لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں^(۷) اور ہدایت و

وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ أَكْثَرًا مَّا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
 الْوَعْدُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝
 الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِّ عَمَلِهِمْ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
 الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

إِنَّهُمْ لَنْ يَنْفَعُوا عَنَّاكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا مَّا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ
 أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ۝

هَذَا بَصَلَةُ لَوْلَا كُنَّا مِنْ هَدَىٰ وَرَحْمَةً لَّعَظُمَ بُرْهُنُهُمْ ۝

(۱) یعنی ان کے زمانے کے اعتبار سے۔

(۲) کہ یہ حلال ہیں اور یہ حرام۔ یا معجزات مراد ہیں۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا علم، آپ کی نبوت کے شواہد اور
 آپ کی ہجرت گاہ کی تعیین مراد ہے۔

(۳) بَغْيًا بَيْنَهُمْ کا مطلب ہے، آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور بغض و عناد کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا جاہ و منصب
 کی خاطر۔ انہوں نے اپنے دین میں، علم آجانے کے باوجود، اختلاف یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کیا۔

(۴) یعنی اہل حق کو اچھی جزا اور اہل باطل کو بری جزا دے گا۔

(۵) شریعت کے لغوی معنی ہیں، راستہ ملت اور منہاج۔ شاہراہ کو بھی شارع کہا جاتا ہے کہ وہ مقصد و منزل تک پہنچاتی
 ہے۔ پس شریعت سے یہاں مراد وہ دین ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے تاکہ لوگ اس پر چل کر اللہ
 کی رضا کا مقصد حاصل کر لیں۔ آیت کا مطلب ہے۔ ہم نے آپ کو دین کے ایک واضح راستے یا طریقے پر قائم کر دیا ہے
 جو آپ کو حق تک پہنچا دے گا۔

(۶) جو اللہ کی توحید اور اس کی شریعت سے ناواقف ہیں۔ مراد کفار مکہ اور ان کے ساتھی ہیں۔

(۷) یعنی ان دلائل کا مجموعہ ہے جو احکام دین سے متعلق ہیں اور جن سے انسانی ضروریات و حاجات وابستہ ہیں۔

رحمت ہے^(۱) اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ (۲۰)
 کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم
 انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک
 کام کیے کہ ان کا مرنا جینا یکساں ہو جائے،^(۲) برا ہے وہ
 فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ (۲۱)

اور آسمانوں اور زمین کو اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ
 پیدا کیا ہے اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا
 پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ (۲۲)^(۳)
 کیا آپ نے اسے بھی دیکھا؟ جس نے اپنی خواہش
 نفس کو اپنا معبود بنا رکھا^(۴) ہے اور باوجود سمجھ بوجھ
 کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا^(۵) ہے اور اس کے کان

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَحْمَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ عِندَ اللَّهِ وَمَا أَلَمُّمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۲۱﴾

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُخْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا
 كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۲۲﴾

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَمَلِهِ وَحَتَمَ عَلَىٰ
 سَمْعِهِ وَقَفَىٰ عَلَيْهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عَنَبَ مَآءٍ فَمَنْ يُهْدِيهِ مِنْ

(۱) یعنی دنیا میں ہدایت کا راستہ بتلانے والا ہے اور آخرت میں رحمت الہی کا موجب ہے۔

(۲) یعنی دنیا اور آخرت میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ کریں۔ اس طرح ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یا مطلب ہے کہ جس
 طرح دنیا میں وہ برابر تھے، آخرت میں بھی وہ برابر ہی رہیں گے کہ مر کر یہ بھی ناپید اور وہ بھی ناپید؟ نہ بدکار کو سزا نہ
 ایمان و عمل صالح کرنے والے کو انعام۔ ایسا نہیں ہو گا۔ اسی لیے آگے فرمایا ان کا یہ فیصلہ برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔

(۳) اور یہ عدل یہی ہے کہ قیامت والے دن بے لاگ فیصلہ ہو گا اور ہر شخص کو اس کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری
 جزا دے گا۔ یہ نہیں ہو گا کہ نیک و بد دونوں کے ساتھ وہ یکساں سلوک کرے، جیسا کہ کافروں کا زعم باطل ہے، جس کی
 تردید گزشتہ آیت میں کی گئی ہے۔ کیوں کہ دونوں کو برابری کی سطح پر رکھنا ظلم یعنی عدل کے خلاف بھی ہے اور مسلمات
 سے انحراف بھی۔ اس لیے جس طرح کانٹے بو کر انگور کی فصل حاصل نہیں کی جاسکتی، اسی طرح بدی کا ارتکاب کر کے وہ
 مقام حاصل نہیں ہو سکتا جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے رکھا ہے۔

(۴) پس وہ اسی کو اچھا سمجھتا ہے جس کو اس کا نفس اچھا اور اسی کو برا سمجھتا ہے جس کو اس کا نفس برا قرار دیتا ہے۔ یعنی اللہ اور
 رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہش کو ترجیح دیتا یا اپنی عقل کو اہمیت دیتا ہے۔ حالانکہ عقل بھی ماحول سے متاثر یا
 مفادات کی ایسی ہر کر، خواہش نفس کی طرح غلط فیصلہ کر سکتی ہے۔ ایک معنی اس کے یہ کیے گئے ہیں، جو اللہ کی طرف سے نازل
 کردہ ہدایت اور رہبان کے بغیر اپنی مرضی کے دین کو اختیار کرتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے ایسا شخص مراد ہے جو پتھر کو
 پوجتا تھا جب اسے زیادہ خوب صورت پتھر مل جاتا، تو وہ پہلے پتھر کو پھینک کر دوسرے کو معبود بنا لیتا۔ (فتح القدیر)

(۵) یعنی بلوغ علم اور قیامت حجت کے باوجود وہ گمراہی ہی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ جیسے بہت سے پندار علم میں مبتلا گمراہ

بَعْدَ اللّٰهِ اَقْلَامٌ تَدُوْنَ ۝۳

اور دل پر مرگادی^(۱) ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا^(۲) ہے، اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے۔^(۳) (۲۳)

کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے۔^(۴) انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہی ہے۔ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے،^(۵) (دراصل) انہیں اس کا کچھ علم ہی نہیں۔ یہ تو صرف (قیاس اور) انکل سے ہی کام لے رہے ہیں۔ (۲۴)

اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی

وَقَالُوا مَا هِيَ الَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نُهَلِكُهَا اِلَّا

الذُّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَتَّبِعُوْنَ ۝۳

وَإِذْ اُنْتَهَلْ عَلَيْهِمُ الِيتُّنَا بِحَبِطٍ مَا كَانُوا يَحْتَجُّوْنَہُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوْا

اہل علم کا حال ہے۔ ہوتے وہ گمراہ ہیں، موقف ان کا بے بنیاد ہوتا ہے۔ لیکن ”ہم چوماد دیگرے نیست“ کے گھنڈ میں وہ اپنے ”دلائل“ کو ایسا سمجھتے ہیں گویا آسمان سے تارے توڑ لائے ہیں۔ اور یوں ”علم و فہم“ رکھنے کے باوجود وہ گمراہ ہی نہیں ہوتے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے پر فخر کرتے ہیں۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ هٰذَا الْعِلْمِ الضَّالِّ وَالْفَهْمِ السَّقِيْمِ وَالْعَقْلِ الزَّائِعِ.

(۱) جس سے اس کے کان و عطر و نصیحت منسنے سے اور اس کا دل ہدایت کے بھنے سے محروم ہو گیا۔

(۲) چنانچہ وہ حق کو دیکھ بھی نہیں پاتا۔

(۳) جیسے فرمایا ﴿ مَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُ مَن يَّطْعِيْنٰهُمْ يَعْصُوْنَ ﴾ (الأعراف: ۱۸۲)

(۴) یعنی غورو فکر نہیں کرتے تاکہ حقیقت حال تم پر واضح اور آشکارا ہو جائے۔

(۵) یہ دہریہ اور ان کے ہم نوا مشرکین مکہ کا قول ہے جو آخرت کے منکر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہی پہلی اور آخری زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں اور اس میں موت و حیات کا سلسلہ، محض زمانے کی گردش کا نتیجہ ہے۔ جیسے فلاسفہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ ہر چھتیس ہزار سال کے بعد ہر چیز دو بارہ اپنی حالت پر لوٹ آتی ہے۔ اور یہ سلسلہ، بغیر کسی صانع اور مدبر کے، از خود یوں ہی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا۔ یہ گروہ دوریہ کہلاتا ہے (ابن کثیر) ظاہر بات ہے، یہ نظریہ، اسے عقل بھی قبول نہیں کرتی اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے۔ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے (یعنی اس کی طرف افعال کی نسبت کر کے، اسے برا کہتا ہے) حالانکہ (زمانہ بجائے خود کوئی چیز نہیں) میں خود زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں، رات دن بھی میں ہی پھیرتا ہوں۔“ (البخاری، تفسیر سورۃ الجاثیۃ، مسلم، کتاب الألفاظ من الأدب،

باب النهی عن سب الدھر)

النَّوَابِيئَاتِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱﴾

تلاوت کی جاتی ہے، تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لاؤ۔^(۱) (۲۵)

آپ کہہ دیجئے! اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے پھر تمہیں مار ڈالتا ہے پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ (۲۶)

اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے۔ (۲۷)

اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔^(۲) ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ (۲۸)

یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ بچ بول رہی ہے،^(۳) ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے۔ (۲۹)^(۴) پس لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام^(۵)

قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُجْمَعُكُمْ اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱﴾

وَلَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُجْمَعُكُمْ اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۲﴾

وَتَرَىٰ كُلَّ اُمَّةٍ جٰئِيَةً مُّغْلَبَةً وَرَءٰى اِلٰى كَيْفِهٰمَ الْيَوْمَ يُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۳﴾

هٰذَا كِتٰبُنَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اِنْ اَكْفٰنَا نَسِيْبَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۴﴾

فَاٰمَنَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَبِذٰلِكَ جَٰلَمُوْا رُءُوْسَهُمْ

(۱) یہ ان کی سب سے بڑی دلیل ہے جو ان کی کٹ جتنی کا منظر ہے۔

(۲) ظاہر آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر گروہ ہی (چاہے وہ انبیاء کے پیروکار ہوں یا ان کے مخالفین) خوف و دہشت کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے (فتح القدیر) تا آنکہ سب کو حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا، جیسا کہ آیت کے اگلے حصے سے واضح ہے۔

(۳) اس کتاب سے مراد وہ رجسٹر ہیں جن میں انسان کے تمام اعمال درج ہوں گے۔ ﴿ وَذُخِرَ الْكِتٰبُ يَوْمَ تَأْتِيٰ بِالسَّٰبِقِيْنَ وَالشَّٰهِيْدِءِ ﴾ ﴿ الزمر: ۶۹﴾ ”اعمال نامے سامنے لائے جائیں گے، نبیوں اور شہدا کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا۔“ یہ اعمال نامے انسانی زندگی کے ایسے مکمل ریکارڈ ہوں گے کہ جن میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ انسان ان کو دیکھ کر پکارا اٹھے گا۔ ﴿ مَا لَ هٰذَا الْكِتٰبِ اِلَّا قِيَٰمٌ مَّغِيْرَةٌ وَّلَا كَيْفِيَّةٌ اِلَّا اَحْصٰهَا ﴾ ﴿ الکہف: ۴۹﴾ ”یہ کیا اعمال نامہ ہے جس نے چھوٹی بڑی چیز کسی کو بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ ہی تو اس میں درج ہے۔“

(۴) یعنی ہمارے علم کے علاوہ فرشتے بھی ہمارے حکم سے تمہاری ہر چیز نوٹ کرتے اور محفوظ رکھتے تھے۔

(۵) یہاں بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کر کے اس کی اہمیت واضح کر دی اور عمل صالح وہ اعمال خیر ہیں جو سنت

فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ①

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ آذَنُوا أَنَّهُمْ لَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ أَيْ تَبَيَّنْ لَكُمْ

فَأَسْتَكْبِرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا تُخْرِجُونَ ②

وَأَذَانٌ لَّيْلٍ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَالسَّاعَةَ لَارْتَبَ فِيهَا قُلُوبُكُمْ

مَأْتِدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ تَطَّلُّوا الْأَكْثَا أَوْ مَا حُنَّ

بِمُسْتَقْبَلِيكُمْ ③

وَبَدَأَ اللَّهُ سَيِّئَاتِكُمْ مَا عَمِلْتُمْ وَأَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَهِيمُونَ

يَسْتَهْزِئُونَ ④

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسِفُكُمْ كَمَا نَسِفْنَا لِقَاءَ رُؤُوسِكُمْ هَذَا وَمَا كُنْتُمْ

النَّارَ وَمَا لَكُمْ مِنْ مُجْرِمِينَ ⑤

کیے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت تلے لے لے گا،^(۱) یہی صریح کامیابی ہے۔ (۳۰)

لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو (میں ان سے کہوں گا) کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھیں؟^(۲) پھر بھی تم تکبر کرتے رہے اور تم تھے ہی گنہ گار لوگ۔^(۳) (۳۱)

اور جب کبھی کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم جو اب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے؟ ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں۔^(۴) (۳۲)

اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں اور جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اس نے انہیں گھیر لیا۔^(۵) (۳۳)

اور کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے کہ تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو^(۶) بھلا دیا تھا تمہارا ٹھکانا

کے مطابق ادا کیے جائیں نہ کہ ہر وہ عمل جسے انسان اپنے طور پر اچھا سمجھ لے اور اسے نہایت اہتمام اور ذوق و شوق کے ساتھ کرے جیسے بہت سی بدعات مذہبی حلقوں میں رائج ہیں اور جو ان حلقوں میں فرائض و واجبات سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اسی لیے فرائض و سنن کا ترک تو ان کے ہاں عام ہے لیکن بدعات کا ایسا التزام ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوتاہی کا تصور ہی نہیں ہے۔ حالاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کو شر الائمور (بدترین کام) قرار دیا ہے۔

(۱) رحمت سے مراد جنت ہے، یعنی جنت میں داخل فرمائے گا، جیسے حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ جنت سے فرمائے گا اَنْتِ رَحْمَتِيْ اَرْحَمُ بِكَ مِنْ اَنْشَاءِ (صحیح بخاری، تفسیر سورۃ ق) ”تو میری رحمت ہے تیرے ذریعے سے (یعنی تجھ میں داخل کر کے) میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔“

(۲) یہ بطور توخ کے ان سے کہا جائے گا، کیوں کہ رسول ان کے پاس آئے تھے، انہوں نے اللہ کے احکام انہیں سنائے تھے، لیکن انہوں نے پرواہی نہیں کی تھی۔

(۳) یعنی حق کے قبول کرنے سے تم نے تکبر کیا اور ایمان نہیں لائے، بلکہ تم تھے ہی گناہ گار۔

(۴) یعنی قیامت کا وقوع، محض ظن و تخمین ہے۔ ہمیں تو یقین نہیں کہ یہ واقعی ہوگی۔

(۵) یعنی قیامت کا عذاب، جسے وہ مذاق یعنی انہوں نے سمجھتے تھے، اس میں وہ گرفتار ہوں گے۔

(۶) جیسے حدیث میں آتا ہے۔ اللہ اپنے بعض بندوں سے کہے گا ”کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تیرا

جنم ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ (۳۴)

یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، پس آج کے دن نہ تو یہ (دوزخ) سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے عذر و معذرت قبول کیا جائے گا۔^(۱) (۳۵)

پس اللہ کی تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین اور تمام جہان کا پالنا ہے۔ (۳۶)

تمام (بزرگی اور) بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی^(۲) ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ (۳۷)

ذَلِكُمْ يَأْتِكُمْ وَلَكُمْ آتُكَمُ الْيَوْمَ وَالْآخِرَةُ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ وَالْحُكْمِ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْحَيَاةِ الْآخِرَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳۵﴾

قُلْ لِلَّهِ الْمُلْكُ وَاللَّهُ يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَبْلُ وَالَّذِينَ آمَنُوا بَعْدُ وَلَا يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۳۶﴾

وَلِلَّهِ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۳۷﴾

اکرام نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے گھوڑے اور بیل وغیرہ تیری ماتحتی میں نہیں دیے تھے؟ تو سرداری بھی کرتا اور چنگی بھی وصول کرتا رہا۔ وہ کے گاہاں یہ تو ٹھیک ہے میرے رب! اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا: کیا تجھے میری ملاقات کا یقین تھا؟ وہ کے گا: نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ «فَالْيَوْمَ أَنسَأَلُكَ كَمَا نَسِيتَنِي» پس آج میں بھی (تجھے) جنم میں ڈال کر بھول جاؤں گا جیسے تو مجھے بھولے رہا۔» (صحیح مسلم، کتاب الزہد)

(۱) یعنی اللہ کی آیات و احکام کا استہزا اور دنیا کے فریب و غرور میں مبتلا رہنا، یہ دو جرم ایسے ہیں جنہوں نے تمہیں عذاب جنم کا مستحق بنا دیا، اب اس سے نکلنے کا امکان ہے اور نہ اس بات کی ہی امید کہ کسی موقع پر تمہیں توبہ اور رجوع کا موقع دے دیا جائے، اور تم توبہ و معذرت کر کے اللہ کو مانا۔ لَا يُسْتَعْتَبُونَ أَيُّ لَا يُسْتَرَضَوْنَ وَلَا يُطْلَبُ مِنْهُمْ الرُّجُوعُ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ، لِأَنَّهُ يَوْمٌ لَا تُقْبَلُ فِيهِ تَوْبَةٌ وَلَا تَنْفَعُ فِيهِ مَعْدَرَةٌ. (فتح القدیر)

(۲) جیسے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: «الْعَلَمَةُ إِزَارَتِي وَالْكَبْرِيَاءُ رِدَائِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَسْكَنَتْهُ نَارِي». (صحیح مسلم، کتاب البر، باب تحریم الکبر)